

# Morality الاخلاق

As mentioned in AlQuran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَخْلَاقُ الْعَمَلِ

Morality of Action

أَخْلَاقُ الْقَلْبِ

Morality of Walk

أَخْلَاقُ الْبَصَرِ

Morality of Sight

أَخْلَاقُ اللِّسَانِ

Morality of Tongue

Respect and honor all human beings irrespective of their religion, color, race, language, status, property, birth, profession [AlIsra 17:70]

اور یقیناً ہم نے عزت بخشی بنی آدم کو اور سواری عطا کی انکو خشکی میں اور سمندر میں اور ہم نے رزق عطا کیا ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے اور فضیلت دی ہم نے انکو بہتوں پر ان میں جنہیں ہم نے پیدا کیا۔ ایک نمایاں فضیلت۔

وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Talk straight, without any ambiguity or deception [AlAhzab 33:70]

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور کما کرو بات سیدھی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Choose best words to speak and say in the best way [AlBaqarah 2:83]

اور کہنا لوگوں سے اچھی بات اور قائم رکھنا نماز کو اور دیتے رہنا زکوٰۃ۔

وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ أَتُوا الزَّكَاةَ

Do not shout, speak politely keeping your voice low [Luqman 31:19]

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ  
اور اعتدال اختیار کر اپنی چال میں اور نیچی رکھ  
اپنی آواز۔

Always speak the truth. Shun words that are deceitful [AlHajj 22:30]

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ  
اور پرہیز کرو بات سے جھوٹی۔

Do not confound truth with falsehood, nor hide truth [AlBaqarah 2:42]

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور  
(نہ) چھپاؤ حق کو جبکہ تم جانتے ہو۔

Say with your mouth what is in your heart [AalImram 3:167]

يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ  
کہتے ہیں وہ اپنے منہ سے جو نہیں تھا ان  
کے دلوں میں۔

Speak in a civilised and in a kindly manner [AnNisa 4:5]

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا  
اور کہتے رہو ان سے بات معقول۔

When you voice an opinion, be just, even if it is against a relative [Al Anaam 6:152]

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ  
اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو اور  
اگرچہ کہ وہ ہو تمہارا رشتہ دار ہی۔

Do not be arrogant with people and walk exultantly [Luqman 31:18]

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا  
اور نہ ٹیڑھا کر اپنے گال لوگوں کے سامنے اور  
نہ چل زمین میں اکر کر۔

Do not talk, listen or do anything vain [AlMominoon 23:3]

اور وہ جو لغو باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

Do not talk, listen or do anything vain [AlQasas 28:55]

اور جب وہ سنتے ہیں بیہودہ بات تو منہ پھیر لیتے ہیں اس سے۔

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ

Avoid false witness. Pass by vain with dignity [AlFurqan 25:72]

اور وہ جو گواہی نہیں دیتے جھوٹی۔ اور جب وہ گذرتے ہیں بیہودگی کے پاس سے تو گذرتے ہیں شریفانہ طور سے۔

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

Do not get close to lewdness, apparent or concealed [AlAnaaam 6:151]

اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے جو ہوں ظاہر ان میں اور جو ہوں پوشیدہ۔

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٍ

Do not be angry, forgive people [AalImram 3:134]

اور پی جاتے ہیں غصے کو اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو۔ اور اللہ محبوب رکھتا ہے نیکی کرنیوالوں کو۔

وَالْكٰظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Do not walk showing arrogance [AlIsra 17:37]

اور نہ چل زمین پر اکڑ کر۔ بیشک تو ہرگز نہیں پھاڑ ڈالے گا زمین کو اور ہرگز نہیں پہنچ جائے گا تو پہاڑوں کی بلندی تک۔

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَجْبُلَ الْجِبَالَ طُولًا

Be moderate in thy pace and lower your voice [Luqman 31:19]

اور اعتدال اختیار کر اپنی چال میں اور نیچی رکھ  
اپنی آواز کو۔

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ  
صَوْتِكَ

Walk with humility, respond ignorants with peace [AlFurqan 25:63]

اور بندے رحمن کے تو وہ ہیں جو چلتے ہیں  
زمین پر عاجزی سے اور جب گفتگو کرتے ہیں  
ان سے جاہل لوگ تو کہتے ہیں سلام۔

وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى  
الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ  
قَالُوا سَلَامًا

Keep your gaze lowered, guard your modesty [AnNoor 24:30-31]

کھدو مومن مردوں سے کہ نیچی رکھا کریں اپنی  
نظریں اور حفاظت کیا کریں اپنی شرمگاہوں  
کی۔ یہ زیادہ پاکیزہ ہے انکے لئے

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ  
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ

اور کھدو مومن عورتوں سے کہ نیچی رکھا کریں  
اپنی نظریں اور حفاظت کیا کریں اپنی شرم  
گاہوں کی اور نہ ظاہر ہونے دیا کریں اپنی  
نہنت کو مگر جو کھلی رہتی ہو اس میں سے اور  
اڑھے رہا کریں اپنی اور ہنسیاں اپنے سینوں  
پر۔ اور نہ ظاہر ہونے دیں اپنی نہنت کو۔

وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ  
أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا  
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ  
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

Ascertain the truth of any news [AlHujrat 49:6]

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اگر آئے تمہارے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ



پاس کوئی فاسق کسی خبر کے ساتھ تو چھان  
بین کر لیا کرو کہیں ضرر نہ پہنچا دو کسی قوم کو  
نادانی سے پھر ہو جاؤ تم اپنے کتے پر نادم۔

بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ  
فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Do not follow that of which you have no knowledge [AlIsra 17:36]

اور نہ پیچھے پڑ اسکے نہیں تجھے جس کا علم۔  
یقیناً کان اور آنکھ اور دل۔ ان میں سے ہر  
ایک کے بارے میں ہوگی باز پرس۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ  
أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

The believers are but a single Brotherhood [AlHujrat 49:10]

در حقیقت مومن آپس میں بھائی ہیں تو صلح  
کرادیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا  
بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ

Do not make mockery of or ridicule others [AlHujrat 49:11]

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے نہ تمسخر کریں مرد  
مردوں سے۔ ممکن ہے کہ وہ ہوں بہتر ان  
سے۔ اور نہ عورتیں (تمسخر کریں) عورتوں  
سے ممکن ہے کہ وہ ہوں بہتر ان سے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ  
مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ  
وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ  
خَيْرًا مِّنْهُنَّ

Do not defame others [AlHujrat 49:11]

اور نہ تذلیل کرو ایک دوسرے کی آپس میں

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ

Do not insult others by nicknames [AlHujrat 49:11]

اور نہ پکارو ایک دوسرے کو برے القاب سے۔

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

**Avoid suspicion and guesswork [AlHujrat 49:12]**

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے بچتے رہو بہت گمان کرنے سے۔ یقیناً بعض گمان گناہ میں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

**Spy not upon one another [AlHujrat 49:12]**

اور نہ تجسس کرو

وَلَا تَجَسَّسُوا

**Do not backbite one another [AlHujrat 49:12]**

اور نہ غیبت کرے تم میں سے کوئی کسی کی

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

**When you meet, offer good wishes and blessings [AnNisa 4:86]**

اور جب دعا دی جائے تم کو سلامتی کی دعا تو دعا دو تم بہتر اس سے یا لوٹا دو وہی۔ بیشک اللہ ہے ہر چیز کا حساب لینے والا۔

وَ إِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

**When you enter homes, offer peace and greetings [AnNoor 24:61]**

پھر جب داخل ہوا کرو گھروں میں تو سلام کیا کرو ایک دوسرے کو۔ یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے مبارک پاکیزہ۔

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ

**Do not enter others' houses without permission [AnNoor 24:27]**

اے وہ لوگو جو ایمان لائے نہ داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے جب تک نہ اجازت لے لو اور سلام کر لو انکے گھر والوں کو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا

Treat kindly your parents, relatives, orphans and needy [AnNisa 4:36]

اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور  
قربت والوں اور یتیموں اور ناداروں

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

Take care of the near to kin and strange neighbors [AnNisa 4:36]

اور ہمسائے رشتہ دار اور ہمسائے اجنبی

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ

Treat kindly your fellow traveller [An Nisa 4:36]

اور پاس بیٹھنے والے اجنبی

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ

Be generous to the needy wayfarer [An Nisa 4:36]

اور مسافر

وَأَبْنِ السَّبِيلِ

Be nice to people who work under your care [An Nisa 4:36]

اور وہ جو ملکیت میں تمہارے داہنے ہاتھ کی

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Do not follow with others reminders of generosity [al-Baqarah 2:262]

وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال اللہ کی  
راہ میں پھر نہیں بتاتے اسکو جو انہوں نے  
خرچ کیا بطور احسان اور نہ کوئی تکلیف۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا  
وَلَا أَذًى

Do not expect a return for your good behavior [AlInsan 76:9]

کہ محض ہم کھلاتے ہیں تمکو اللہ کی خوشنودی  
کیلئے۔ نہ چاہتے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ  
اور نہ شکرگذاری۔

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ  
مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا

Cooperate in good deeds, not in bad matters [AlMaida 5:2]

اور تعاون کرو نیکی میں اور پرہیزگاری میں  
- اور مت تعاون کرو گناہ میں اور ظلم میں

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا  
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Do not try to impress people of self-proclaimed virtues [AnNajm 53:32]

تو نہ بتاؤ پاک صاف اپنے آپکو۔ وہ خوب  
واقف ہے اس سے جو ڈرتا ہے۔

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ  
اتَّقَىٰ

Enjoin right conduct mend your own ways first [AlBaqarah 2:44]

کیا علم دیتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا اور  
فراموش کئے دیتے ہو اپنے آپ کو۔

اتَّامِرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ  
أَنْفُسَكُمْ

Spend in ease and adversity, restrain anger, pardon [AalImram 3:134]

وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں آسودگی میں اور  
تنگی میں اور پی جاتے ہیں غصے کو اور معاف  
کرتے ہیں لوگوں کو۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ  
وَ الكَظِيمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِينَ عَنِ  
النَّاسِ

Call people with wisdom and good way, be decent [AnNahal 16:125]

بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت  
کے ساتھ اور نیک نصیحت سے۔ اور مباحثہ  
کرو ان سے ایسے طریقہ سے جو بہتر ہو۔

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ  
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِهِمْ بِالَّتِي  
هِيَ أَحْسَنُ

Leave those who live life of amusement, remind them [AlAnaam 6:70]

اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَ



اپنے دین کو ٹھیل اور تماشا اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے انکو دنیا کی زندگی نے۔ اور نصیحت کرتے رہو اس (قرآن) سے

لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَّرَ بِهِ

Sit not with those who ridicule Allah's verses [AnNisa 4:140]

یہ کہ جب تم سنو آیات اللہ کی کہ انکار ہو رہا ہے ان کا اور ہنسی اڑائی جا رہی ہے انکی تو مت بیٹھو انکے ساتھ جب تک نہ مشغول ہو جائیں وہ کسی بات میں اسکے علاوہ۔

إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

Do not be jealous of those who are blessed [AnNisa 4:54]

یا حسد کرتے ہیں یہ لوگوں سے اسپر جو دے رکھا ہے انہیں اللہ نے اپنے فضل سے۔

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

In your collective life, make rooms for others [AlMujadilah 58:11]

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے جب کہا جائے تم سے کہ کھل کر بیٹھو مجالس میں تو کھل کر بیٹھا کرو کشادگی بخشنے گا اللہ تمکو۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا

Eat and drink [what is lawful] in moderation [AlAraaf 7:31]

اے اولاد آدم آراستہ رہو اپنی نینت سے ہر

يَبْنِي أَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ

مَسْجِدٍ وَ كُلُّوا وَ اشْرَبُوا وَ لَا تُسْرِفُوا  
 عبادت کی جگہ پر۔ اور کھاؤ اور پیو اور نہ بے جا اڑاؤ

Do not squander your wealth senselessly [AlIsra 17:26]

وَ لَا تُبَدِّلْ تَبَدُّيرًا  
 اور نہ (اپنی دولت) اڑاؤ فضول خرچی سے۔

Fulfill your promises and commitments [AlIsra 17:34]

وَ اَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا  
 اور پورا کرو عہد کو۔ یقیناً عہد کہ ہوگی اسکے بارے میں پوچھ گچھ۔

Dress-up in agreeable attire and adorn yourself [AlAraaf 7:26]

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا  
 اے اولاد آدم یقیناً اتارا ہے ہم نے تم پر لباس تاکہ ڈھانکے تمہاری شرمگاہوں کو اور نینت۔ اور لباس تقویٰ کا وہ بہتر ہے۔

Do not devour the wealth, nor bribe the officials [AlBaqarah 2:188]

وَ لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کے اموال آپس میں ناحق طور پر اور (نہ) پہنچاؤ اس کو حاکموں کے پاس تاکہ کھا جاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا گناہ سے

